




Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 1136/2019

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	12/09/2019	<p>The appeal of Mst. Shaheeda Rahim resubmitted today by Mr. Muhammad Aftab Qadir Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR 12/9/19</p>
2-	<p>13/09/19.</p> <p>26.09.2019</p>	<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>26/09/2019.</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p> <p>Counsel for the appellant present.</p> <p>Learned counsel, when confronted with the prayer contained in the memorandum of appeal, requests for withdrawal of the appeal with the option to file a fresh one in accordance with law.</p> <p>Disposed of as such. File be consigned to record room.</p> <p style="text-align: right;">Chairman </p> <p><u>Announced:</u> 26.09.2019</p>

*Competence
Mst. Shaheeda*


The appeal of Mst. Shaheeda Rahim w/o Jelani Khan r/o Kasai Tehsil Salarzai Raghgan District-Bajuar received today i.e. on 25.07.2019 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- ✓ 1- Memorandum of appeal may be got signed by the appellant.
- 2- Addresses of respondent No. 4 and 6 are incomplete which may be completed according to the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal rules 1974.
- 3- Copies of appointment and promotion orders mentioned in the para-1 of the memo of appeal are not attached with the appeal which may be placed on it.
- ✓ 4- One more copy/set of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 1353 /S.T,

Dt. 31-7- /2019.

Received on 22/8/19


REGISTRAR
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.

M.Aftab Qaiser Adv. Pesh.

*Sir, complete with in all respect
please put up before the court.*

M. (A) 2 18/9/19

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT PESHAWAR

Service Appeal No . 1136/2019

Shahida Appellant

VERSUS

Govt of KpK Respondent

INDEX

Sl. No.	Description of documents	Annex	Pages
1.	Copy OF appeal		1-4
2.	Affidavit		5-a
3.	Address of parties		5-b
4.	Copy of CNIC		6
5.	Copy of appointment order 3/5/1992		6-a
6.	Copy of transfer order		7-a
7	Copy of application		7-b
8	Copy of applications		8-12
9	Copy of letter		13
10	Copy of application		14
12	Vakalat Namma		15

Through

Appellant

Aftab Qaiser
Advocate Peshawar

①

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES
TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. 1136 /2019

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 1046

Dated 25/7/2019

Shaheda Rahim W/o Jelani Khan
R/o Kasai Tehsil Salarzai, Raghgan District Bajaur
.....**Appellant**

V E R S U S

1. Govt. of KPK through Secretary Education Khyber Pakhtunkhwa, Civil Secretariat, Peshawar
2. District Education Officer, Bajaur
3. Director Education Newly Marged District KPK, Peshawar
4. Miss Khair Un Nisa, Head Mistress Govt. Girls Primary School, (GGPS), College Colony Khar Bajaur
5. District Accountant Officer Bajaur
6. Miss Ishrat Begum W/o Hayat Khan, Village Haji Lawang, GGPS Lal Gul Banda, Bajaur

.....**Respondents**

Filed to-day

[Signature]
Registrar
25/7/19

**APPEAL UNDER SECTION 4 OF
THE SERVICES TRIBUNAL ACT
1974 AGAINST THE IMPUGNED
TRANSFER ORDER DATED
19/12/2018 WHEREBY
RESPONDENT NO.2 HAS**

Re-submitted to -day
and filed.

[Signature]
Registrar
12/9/19

(2)

UNLAWFULLY TRANSFERRED
RESPONDENT NO.6 FROM GGPS
LAL GUL BANDA TO GGPS
COLLEGE COLONY KHAR
BAJAUR

Prayer in Appeal:

On acceptance of this appeal, the impugned order dated 19/12/2018 may very graciously be set aside and respondent No.6 may kindly be restored bak to the GGPS Lal Gul Banda in the large interest of justice.

Respectfully Sheweth:

1. That appellant was appointed as PST in the year 1993 and was promoted to BPS-15, since the appellant is serving the department at her best of ability. **(Copy of appointment and promotion order is Annexure-A)**
2. That the appellant served the department without any complaint on her ability.
3. That the appellant has served more than 25 years of job in GGPS Salarzai Bajaur which is for away to her home. She know that on

3

08/04/2019 on GGPS College Colony one post is now vacant but now she is surprised where she know that this post was fill up illegal and unlawfully on 19/12/2018.

4. That aggrieved by the order appellant preferred departmental appeal to the respondent No.3 but with no response. **(Copy of departmental appeal is Annexure-B)**
5. That appellant is aggrieved from the order of respondents with no other remedy hence approached this Honourable Tribunal on the following amongst other grounds:

GROUND S:

- A. That on considering of the appeal by the respondent against the impugned transfer order is unwarranted and illegal.
- B. That the appellant has served the department at the best of his ability but even that respondent No.3, illegally transferred the respondent No.6.
- C. That since respondent No.6 has not completed the tenure therefore, the impugned order to the extent of respondent No.6 is not sustainable.

4


- D. That the impugned order of transfer was made to the post which was not at that time when such order was made.
- E. That the impugned transfer was made with malafide intention because it was made prior to the retirement of Mst. Haroon Nisa.
- F. That the appellant be allowed to add/rely upon other grounds at the time of arguments.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of this appeal, the impugned transfer order dated 19/12/2018 to the extent of respondent No.6 may kindly be set aside and she be posted back to GGPS Lal Gul Banda in the large interest of justice.

Appellant

Through

Date: 23/7/2019


Muhammad Aftab Qaisar
Advocate, High Court,
Peshawar

5-A

BEFORE THE KHYBER PUKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No. _____/2019

Shahida Rahim Appellants

VERSUS

Govt. of Khyber Pukhtunkhwa Respondents

AFFIDAVIT

I, shahida Rahim w/o Rahim (PST ,GGPS) R/O Kassi

Salarsai Distrect Bjaor , do hereby solemnly affirm and declared on Oath that the contents of the appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from the Hon'able Court.

Identified by


M. Af

Deponent

S

~~Muhammad Aftab Paises~~
Advocate Peshawar

21106-3523407-6



5-b

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES
TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. _____/2019

Shaheda Rahim **Appellant**

V E R S U S

Govt. of KPK and others **Respondents**

ADDRESSES OF PARTIES

APPELLANT

Shaheda Rahim W/o Jelani Khan
R/o Kasai Tehsil Salarzai, Raghgan District Bajaur

RESPONDENTS



1. Govt. of KPK through Secretary Education Khyber Pakhtunkhwa, Civil Secretariat, Peshawar
2. District Education Officer, Bajaur
3. Director Education Newly Marged District KPK, Peshawar
4. Miss Khair Un Nisa, Head Mistress Govt. Girls Primary School, (GGPS), College Colony Khar Bajaur
5. District Accountant Officer Bajaur
6. Miss Ishrat Begum W/o Hayat Khan, Village Haji Lawang, GGPS Lal Gul Banda, Bajaur

Through

Appellant

M A Q
Muhammad Aftab Qaisar
Advocate, High Court,
Peshawar

Date: __/__/2019



6-A

OFFICE OF THE AGENCY EDUCATION OFFICER, GHAZAL, DISTRICT AT HANES.

APPOINTMENT AND TERMINATION:

As approved by the Director of Education (PATA) Peshawar the following appointments/terminations of female candidates are hereby ordered in the schools noted against on him in the interest of public service with effect from their respective dates.

The new candidate will be placed in the BPS-7 (Rs. 1015/-) per month fixed plus usual allowances as admissible under the rules.

S.No.	Name of Candidate	From	To	Remarks
1.	Ms. Saira Anwar 1/0 Moor Nurain	13/12/92	13/12/92	Against vacant post.
2.	Ms. Farhat 1/0 Moor Nurain	-do-	-do-	Against vacant post.
3.	Ms. Farhat 1/0 Moor Nurain	-do-	-do-	Against vacant post.
4.	Ms. Farhat 1/0 Moor Nurain	-do-	-do-	Against vacant post.
5.	Ms. Farhat 1/0 Moor Nurain	-do-	-do-	Against vacant post.
6.	Ms. Farhat 1/0 Moor Nurain	-do-	-do-	Against vacant post.
7.	Ms. Farhat 1/0 Moor Nurain	-do-	-do-	Against vacant post.

1. The candidate should be a citizen of Pakistan.
2. The candidate should be a graduate or equivalent in any discipline.
3. The candidate should be a minimum of 18 years of age and a maximum of 35 years of age at the time of application. In case of women candidates, the age limit shall be 35 years.
4. The candidate should be a resident of the district of Peshawar.
5. The candidate should be a holder of a valid certificate of fitness issued by a medical officer.
6. The candidate should be a holder of a valid certificate of character issued by a police officer.
7. In case they are failed to respond charge within two weeks their vacancies should be reported to the office.

Sd/-
 A. A. E. O. GHAZAL
 03/12/1992

Tadst: No. 1530-1545/92

Copy of the above is forwarded for information and necessary action to the:

1. Director of Education (PATA) HANES, Peshawar.
- 2-7. All the Head Teacher Concerned.
- 8-14. All Candidates concerned.
- 15-16. A.A.E.O. (Female) & Pay Clerk of the local Office.

S.A. JEM/e

AGENCY EDUCATION OFFICER,
GHAZAL/AGENCY AT HANES.

OFFICE OF THE AGENCY EDUCATION OFFICER ORAKZAI AGENCY AT HANGU**APPOINTMENT/TRANSFERS:**

As approved by the Director of Education (FATA) NWFP, Peshawar the following appointments/transfers of female candidates/PTC are hereby ordered in the schools noted against each in the interest of public service with effect from their taking over charges.

The new candidates will placed in the BPS-7 @ Rs.1095/- per Month fixed plus usual allowances as admissible under the Rules.

S.No.	Name of candidates	From	To	Remarks
1.	Miss Noore Arab D/o Noor Hussain	Candidate	GGPS, Sarids	Against Vacant post
2.	Miss Hashmat Banoo D/o Saif ul Rehman	-do-	Gal Ali Khel	-do-
3.	Miss Naheed Akhtar D/o Taj Muhammad	-do-	-do-	-do-
4.	Miss Mehnaz Gul Do Siraj ud Din	-do-	Toorkanri	-do-
5.	Miss Shahida Rahim D/o Rahim Shah	-do-	-do-	Vice S.No.6
6.	Miss Matlub Rana	GGPS Toorkanri	Ghilje	Against Vacant post
7.	Miss Neelofar	Talai	Sheraz Garhi	-do-

Notes:

1. Charges reports in duplicate should be submitted to this office.
2. No TA/DA & transfer grant is allowed to anyone.
3. Their appointments are being made purely on temporarily basis and are liable to termination at any time without notice and without assigning reasons. In case they wishes to resign the posts they shall have to give one month prior notice forfeit one month's pay in lieu thereof.
4. The original qualification, date of birth & domicile certificate should be checked before they are handed over charge of the post and attested copies thereof be kept on the record.
5. They should produce their Health Age certificate from the Agency Surgeon, Orakzai Agency at Hangu.
6. They should not be handed over charge of the post if they are below 18 years or above 30 years of age.
7. In case they are failed to assumed charge within two weeks their vacancies should be reported to this office.

Sd/-

AGENCY EDUCATION OFFICER
ORAKZAI AGENCY AT HANGU

Endst. No.1530-1545/PTC

dated 03 May 1992

Copy of the above is forwarded for information and necessary action to the:

1. Director of Education (FATA), NWFP, Peshawar
- 2-7 All the Head Teacher concerned.
- 8-14 All candidates concerned.
- 15-16 A.A.E.O, (Female) & Pay clerk of the local office.

S.A. Jan/

Sd/-

AGENCY EDUCATION OFFICER
ORAKZAI AGENCY AT HANGU

7-A

OFFICE OF THE DIRECTOR

EDUCATION (FATA), N.W.F.P PESHAWAR.

TRANSFER.

Shahid

MSt: *Shahid*
Kanai (Orakzai Agency)
BPS to Govt: Girls P
in the intrest of Pub
taking over charge,

Rahia PTC Govt: Girls Primary School Toor
hereby transferred on her own pay and
School Salarzai Kasi (Bajour Agency)
Service with effect from date of her
at a vacant PTC post.

Note:-

1. Charge report should be submitted to all concerned.
2. TA/DA and 1. for grant is not allowed.
3. Her Seniority will be placed at the bottom of the seniority list of Bajour Agency.

(Dr. Sher Alam Khan)
Director of Education
FATA, N.W.F.P Peshawar.

Endst: NO

11242

IAE/PTC/Dated Pesh: the *25/4/93*

to the:-

1. Copy for
Agency Ed
2. Agency Ed
3. P.A to D, L
- on Officer, (Bajour Agency) at Khar.
on Officer (Orakzai Agency) at Hangu.

Shahid
Dy: Director of Education
FATA, N.W.F.P Peshawar.



OFFICE OF THE DIRECTOR OF EDUCATION (FATA), NWFP PESHAWAR

TRANSFER

Mst. Shahida Rahim PTC Govt. Girls Primary School Toor Kanai (Orakzai Agency) is hereby transferred on her own pay and BPS to Govt. Girls Primary School Salarzai Kasi (Bajour Agency) in the interest of public Service with effect from date of her taking over charge, against a vacant PTC post.

Note:

1. Charge report should be submitted to all concerned.
2. TA/DA and transfer grant is not allowed.
3. Her seniority will be placed at the bottom of the seniority list of PTC Bajour Agency.

Sd/-xxxx
(Dr. Sher Alam Khan)
Director of Education
FATA, NWFP, Peshawar

Endst. No.11242-44 II AEPTC/Dated Pesh: the 25/04/93

Copy forwarded to the:-

1. Agency Education Officer, (Bajour Agency) at Khar.
2. Agency Education Officer (Orakzai Agency) at Hangu
3. P.A to D.E. (FATA)

Sd/-xxxx
Director of Education
FATA, NWFP, Peshawar

District Education Officer
Bajaur at Khaz

(7)

Transfer order

N- 2074

dt 19/12/2018

Transferred to MISS/Shehat Begum ^{GAPS} Lal Gul Banda is hereby
and Scale in the interest of public Service

Note: (1) No T.A/D.A allowed
(2) Necessary entries should be made in their S/book

Endast No Dated 2018
copy, of the above is forwarded to the
(1) Director Education newly merged districts KPK Peshawar
(2) District Accounts Officer Bajaur.
(3) Accountant of the local office
(4) official concerned.

AK
Attested to be true

خدمت جناب ڈاکٹر بلکہ آف انجولیشن قبائلی اضلاع ڈراما افسانہ
درخواست برائے پمدر دانہ غور

8

جناب عالی!
ذمہ دارانہ التماس ہے کہ سائلہ 1993 کے GPS ٹیسٹ سہارا زنی
باجوڑ میں آ. پی. س.، BPS 15 میں خدمات سے انجمن دی رہی ہے اور
مذکورہ سکول میری گورننگ کمیٹی کے دورے اور خواتین کی انجمن دی
کافی دشواری ہے۔

یہ والا! میری گورننگ کمیٹی کے GPS کا بیج کالونی واقع ہے اور
میں ریٹائرمنٹ پر ہارون النساء آ. پی. س.، BPS 15 18 اپریل 2019
ریٹائر ہوئے والی ہے اور بعض عناصر اسکی ساتھ تو میچول ٹرانسفر
چاہتے ہیں۔

ذرا مہربانگی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ مذکورہ
اپرکارا لستہ روکے اور میرٹ کی بنیاد پر مذکورہ پوسٹ پر میری
رہنے کے احکامات صادر فرمائیں۔

مرٹ کی بنیاد پر میری حق و حقوق کے لیے
24 سال stay tenure ② نوم سیشن کی بنیاد پر PAF 10
پانچویں پالیسی کی بنیاد پر ④ BPS 15 سب سے بنیاد پر ①
الغافلہ

ناہو خان شاہدہ رحیم آ. پی. س.، GPS ٹیسٹ سہارا زنی ضلع باجوڑ

MAS
Attached

8
9

تحریر منجانب مشیر تعلیم صاحب صوبہ خیبر پختون خواہ
عنوان!
Ban Relaxation درخواست برائے

جناب عالی!
مطو دبانہ التماس ہے کہ سائل، GAPS کرسی ضلع باجوڑ میں
PST پوسٹ پر BPS ڈا میں ورائف سرجام دی گئی ہے لیکن
مذکورہ سکول میری گھر سے بہت دور ہے اور ورائف کے
انجام دیے میں دشواری ہے۔ چونکہ میری گھر کے نزدیک
GAPS کالج کالونی واقع ہے اور مجھے باہر ترقی درائع سے
معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ سکول میں 14/10/19 کو ایک PST
حالی ہوا ہے لیکن چونکہ تبادلے پر پابندی ہے لہذا
آپ صاحبان مہربانی کر کے مجھے Ban Relaxation عطا کریں

الغافلین

ایکاتاہ فرمان مشیر شاہدہ رسم PST، GAPS کرسی ضلع باجوڑ

Handwritten signature and text:
Ban Relaxation
for

(ZIA ULLAH KHAN BANGASH)
Advisor to Chief Minister on
Elementary & Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa

MMS
Attached

خدمت جناب - سرپرست آف ایجوکیشن خیبر پختون خواہ، اقبال آباد
عنوان :- (10) بمدر دانه محلمانہ اربیل

جناب عالی! مؤدیانہ التماس ہے کہ مسئلہ (1983) کے لیے GPS کی سلاوڑنی باجوڑ میں PST، BPS 15 میں خدمات سرانجام دی رہی ہے لیکن مذکورہ سکول میری گورنمنٹ سے کافی دور ہے چونکہ میری گورنمنٹ کے نزدیک کالج کالونی کا GPS واقع ہے اور اس میں ایک پوسٹ 8 اپریل 2019 کو خالی ہونی والی تھی۔ میں نے سابق DEO صاحب کو 9/11/18 پر ایک درخواست دی کہ بعض عتام مذکورہ پوسٹ پر ٹرانسفر/محول ٹرانسفر رائے سے سرگرم ہیں لہذا آپ صاحبان ان کا رائے لیں اور جب پوسٹ خالی ہو جائے تو میری کمی بنیاد پر میری تبادلہ فرمائیں تو DEO صاحب نے درخواست پر (ADEO(F) کو لکھا کہ Keep pending and decide on merit جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسے بعد میں 20/19 کو ایک ایک درخواست ڈائریکٹ آف ایجوکیشن قبائلی اضلاع اور ڈائریکٹ آف ایجوکیشن KPK کو دی اور اسکے تناظر میں ڈائریکٹ آف ایجوکیشن قبائلی اضلاع نے DEO باجوڑ کو 5/3/19 پر ایک لٹر بھیجا ہے کہ Consider per policy / merit جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے۔

مارچ 2019 میں ADEO(F) عشرت بی بی PST کے ساتھ مذکورہ سکول میں لائے تھی اور سکول کے رینجارج کو ترقیاتی کہا تھا کہ بارشوں سے وجہ سے یہ یہاں پر چند دن لے کر لائی گئی رہنے لگے لیکن جب 12 مارچ 2019 کو سابق DEO صاحب کا تبادلہ ہوا تو میں نے موجودہ DEO صاحب کو درخواست کی کہ مذکورہ دستاویزی تحریری آرڈر کے بغیر سکول میں ڈیوٹی کرتی ہے تو DEO صاحب نے سکول کا وزٹ کیا اور صورت حال کو خود دیکھا اور جب دو تین دن بعد دوسرا وزٹ کیا تو مذکورہ دستاویزی آرڈر دیکھا اور جب دو تین دن بعد درج تھا۔ جناب والا! حیرانگی کی بات ہے کہ پوسٹ 8 اپریل 2019 کو خالی ہوتی ہے لیکن اس پر آرڈر 19/12/18 کو دیا گیا جس پر 19/12/18 جناب والا! پھر میں نے اس آرڈر کے خلاف 26 مارچ کو DEO صاحب کو اربیل کی اور 28 مارچ کو اس میں ایک رٹوائری نوٹیفائی ہوئی کہ ایک ہفتہ کے اندر اس میں رپورٹ داخل کیا جائے۔ لیکن اس رٹوائری کے کنڈیشن میں غیر ضروری تاخیر ہوئی اور پھر رٹوائری رپورٹ کے داخل کرنے میں لیت و لعل سے کام لیا گیا۔

جناب والا! چونکہ میں بھی اس رٹوائری میں ایک فریق تھی لیکن نہ جو سے کوئی رپورٹ لی گئی اور نہ میری قائل ان کو دی گئی جس کے نتیجے میں بقول DEO صاحب

D.T.O
M. A. Khan

صفحہ (2)

نوٹ: (11) (12) میری حق میں نہیں ہے۔

یہاں آپ صاحبان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سب سے پہلے مذکورہ
رڈز کو منسوخ / معطل کریں کیونکہ یہ غیر قانونی ہے اور جب
انسفر سے پابندی اٹھ جائے تو پھر اس طرح کی بنیاد پر مذکورہ
سٹول کو میری تبادلہ کریں۔

العارفہ

تابع وہان شاہدہ رسم PSHI، PSHT کی کئی ضلع باجوڑ

بقول برائے اطلاع:

- ① سیکریٹری رجسٹریشن KPK
- ② چیف سیکریٹری KPK

Ms
Attested

خدمت جناب ڈائریکٹر آف ایگزیکیوٹو انڈسٹریل سیکنڈری ایجوکیشن K.P.K (ڈا) اقبال
درخواست برائے ہٹلرڈالہ غور

(19)

جناب عالی! سائلہ 1993 سے Gaps کسی سلازٹی میں
مؤدبانہ التماس ہے کہ سائلہ 1993 سے Gaps کسی سلازٹی میں
یا جوڑ میں آ.پ.س میں 15 میں خدمات سر انجام دی رہی ہے اور
مذکورہ سکول میری گورنر کے کافی دور سے اور فائنل ہی انجام دی

میں کافی مشکلات ہیں۔
جناب والا! میری گورنر کی نزدیک Gaps کا لیج کالونی واقع ہے
اور اس میں آئی اسٹانی ہارون النساء آ.پ.س میں 15 میں 8 اپریل
1993 کو ریٹائر ہونے والی ہے اور بعض عناہر اسکی ساتھ میچول

ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔
لہذا آپ صاحبان کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ مذکورہ
عناہر کا راستہ روئے اور میرٹ کی بنیاد پر مذکورہ پوسٹ پر
میری تبادلہ کے احکامات صادر فرمائیں۔
میرٹ کی بنیاد پر میری حق کچھ اس طرح ہے

① 26 سال Stay tenure

② ہوم لیشن کے بنیاد پر

③ سپاؤس پالیسی کی بنیاد پر

④ 15 BPS میں سکول کے بنیاد پر

الغافلہ

دیکتاہ ومان شاہدہ رسم آ.پ.س، Gaps کسی میں یا جوڑ

ADDE (NMD)

29/7/19

As
Attested



Directorate of Elementary and Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

PH No. 091-9210389, 9210938,
9210437, 9210957, 9210468
Fax 091-9210936

(B)

No. 3666 /E-6.

Dated 5/3 /2019.

To

The District Education Officer,
District Bajaur.

Subject:- APPLICATION FOR TRANSFER.

Memo:-

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith an application in respect of Mst. Shahida Rahim PST, GGPS Kassi Salarsai District Bajaur for consideration as per policy/rules and merit.

Encl: A.A.

Deputy Director (Estt.)
Merged District

Endst. No. _____ /-

Dated Pesh: the _____ /2019.

Copy to :-

1. PA to Director, E&SE, KPK Peshawar.
2. Applicant concerned.

Deputy Director (Estt.)
Merged District

485
8/3/2019
[Signature]

ADDED (P)
for report

[Signature]
2/3/2019

[Signature]
Albestor

خدمت ضابطہ D.E.O صاحبہ خاری باجوڑ (د) اقبالکم

درخواست برائے بمسددانہ طور

جناب عالی


مؤدبانہ التماس ہے کہ سائلہ نے 1993 سے Gaps کسٹی میں
 PSI یوسٹ پر واپس سے انجام دیا رہی ہے اور مذکورہ
 سکول میری گورنمنٹ بہت دور ہے۔ چونکہ میری گورنمنٹ
 Gaps کالج کالونی واقع ہے اور اس میں ایک آستانہ چارون النساء
 ایپریل 1992 میں ریٹائر ہوئی والی ہے اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ
 میچول ٹرانسفر کرانے کے خواہش مند ہیں۔ لہذا آپ
 صاحبان کی خدمت میں گزارش کیجاتی ہے کہ مذکورہ
 ٹرانسفر کا دستہ روکے کیونکہ مذکورہ ٹرانسفر میرٹ
 پر میری حق بنتا ہے اور میری Stay tenure کے سال بنتا ہے۔

العارضہ

؟ کیا قابو ومان شاہدہ رحیم آ. پی. سی، Gaps کسٹی سلازنی

ADVERT
 keep pending
 and decide on
 merit




9/11/18



AKS
 Attested

2019-2020

15

قیمت 50 روپے	7636	  
ایڈوکیٹ: <u>M. (A)</u> بار کونسل ایسوسی ایشن نمبر: <u>bc-14-4910</u> رابطہ نمبر: <u>0300-5830715</u>		
پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ		

بعدالت جناب: سروس ٹریبونل پشاور

منجانب: <u>Appellant</u>	دعویٰ:
<u>مسماہ شاہدہ رحیم</u>	علت نمبر:
<u>بنام</u>	مورخہ:
<u>گورنمنٹ آف کپی کے</u>	جرم:
	تھانہ:
باعث تحریر آگہ	

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کارروائی متعلقہ
 آن مقام پشاور کیلئے محمد آفتاب قصیر ایڈووکیٹ کو وکیل مقرر
 کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو
 راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف دینے جواب دعویٰ اقبال دعویٰ اور درخواست از ہر قسم کی تصدیق
 زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز
 دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی
 کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب
 مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ با اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داختم منظور و قبول ہوگا
 دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا حد سے
 باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کریں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے

Attested & Accepted
M. (A)

المرقوم: 23/7/19

المقام: پشاور
 العاوانہ: گواہ شد
 العاوانہ: گواہ شد

Attested
 Accepted
M. (A)

نوٹ: اس وکالت نامہ کی فوٹو کاپی ناقابل قبول ہوگی۔

مسماہ شاہدہ رحیم زبیر جیلانی خان
 21106-3523407-6